



FEDERAL PUBLIC SERVICE COMMISSION
COMPETITIVE EXAMINATION - 2020
FOR RECRUITMENT TO POSTS IN BS-17
UNDER THE FEDERAL GOVERNMENT

Roll Number

ISLAMIC STUDIES

TIME ALLOWED: THREE HOURS PART-I(MCQS): MAXIMUM 30 MINUTES	PART-I (MCQS) PART-II	MAXIMUM MARKS = 20 MAXIMUM MARKS = 80
---	--------------------------	--

- NOTE:** (i) Part-II is to be attempted on the separate Answer Book.
(ii) Attempt ONLY FOUR questions from PART-II. ALL questions carry EQUAL marks.
(iii) All the parts (if any) of each Question must be attempted at one place instead of at different places.
(iv) Write Q. No. in the Answer Book in accordance with Q. No. in the Q.Paper.
(v) No Page/Space be left blank between the answers. All the blank pages of Answer Book must be crossed.
(vi) Extra attempt of any question or any part of the question will not be considered.

PART-II

- Q. No. 2. Discuss the status and grade of "Tolerance and Forgiveness" in the life of the Holly Prophet (PBUH). (20)
- Q. No. 3. Write a comprehensive note on the bravery and juridical Wisdom of Hazrat Ali (R.A) (20)
- Q. No. 4. "The last Sermon of the Holy Prophet (PBUH) is the basic document for awakening of conscious of mankind for human rights". Discuss. (20)
- Q. No. 5. Discuss in detail the principles and terms & conditions for "Jihad" in the light of Quran and Sunnah. (20)
- Q. No. 6. Analyze the Madina Accord as a "Social Contract" in detail. (20)
- Q. No. 7. "Islam teaches the lesson of human respect and dignity irrespective of colour, race and creed". Discuss. (20)
- Q. No. 8. "Islamic Financial and Economic system is the solution of the human financial problems". Discuss. (20)

URDU VERSION

- سوال نمبر 2: نبی اکرم ﷺ کی حیات مبارکہ میں تحمل و برداشت اور عفو و درگزر کو جو مقام حاصل ہے اسکا احاطہ کیجئے۔ (20)
- کی شجاعت اور فقیہانہ تدبیر پر ایک جامع شذرہ تحریر کیجئے۔ (20) اللہ وجہ کرم سوال نمبر 3: حضرت علی
- سوال نمبر 4: دنیا میں انسانی حقوق کی شعوری بیداری کیلئے "خطبہ حجۃ الوداع" اہم اور بنیادی دستاویز ہے۔ بحث کریں۔ (20)
- سوال نمبر 5: قرآن و سنت کی روشنی میں جہاد کے اصول و شرائط پر تفصیلی بحث کریں۔ (20)
- سوال نمبر 6: بیثاق مدینہ کا معاہدہ عمرانی (سوشل کنٹریکٹ) کی حیثیت سے منسل تجزیہ پیش کریں۔ (20)
- سوال نمبر 7: اسلام بلا تمیز رنگ و نسل و مذہب انسانی وقار و احترام کا درس دیتا ہے۔ بحث کریں۔ (20)
- سوال نمبر 8: اسلام کا معاشی و اقتصادی نظام ہی انسانیت کی معاشی مشکلات کا حل ہے۔ بحث کریں۔ (20)
